

برائے فوری اجراء

ہر دروازے کے پیچھے چھپی کہانی جانیں

ڈورز اوپن 2019 کے دوران برامپٹن کی تاریخ، ورثے اور منفرد ثقافتی جگہوں کا تجربہ کریں

برامپٹن، آن (16 ستمبر 2019) – تمام رہائشی اور سیاحوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ 28 ستمبر 2019 کو صبح 10 سے شام 4 برامپٹن کی تاریخ، ورثے اور منفرد ثقافتی جگہوں کا تجربہ کرنے کے لیے ڈورز اوپن میں شرکت کریں۔ برامپٹن کی 20 سے زائد نہایت محسوس کن سہولت گاہیں اپنے دروازے کھولیں گی اور عوام کو ان کے پیچھے چھپی کہانیاں جاننے کے لیے خوش آمدید کہیں گی۔

وکتورین زمانے کی اچھی طرح محفوظ عمارتوں سے لے کر بیرونی پیدل سیروں اور جدید عبادت گاہوں تک، برامپٹن کے ہر علاقے میں تلاش کرنے کے لیے بہت کہانیاں موجود ہیں۔ اسلحہ خانے کی تاریخ جانیں، برامپٹن کے تھیٹرز کے بیک اسٹیج کی سیر کریں اور ہمارے جدید نظام آمد و رفت کو دیکھیں۔ ہر جگہ، برامپٹن میں موجود سہولت گاہوں کا ایک مفت، خصوصی اور پردے کے پیچھے کا نظارہ دینے کا وعدہ کرتی ہے۔

مزید تفصیلات اور شرکت کرنے والی جگہوں کی فہرست کے لیے brampton.ca/doorsopen ملاحظہ کریں۔

ڈورز اوپن میں رہائشیوں کو حالیہ طور پر تجدید شدہ لیسٹر بی۔ پیئرسن (LBP) تھیٹر جانے کا پہلا موقع بھی ملے گا۔ فنی مظاہروں کا یہ شاندار مقام بہتر ایکسیس ایبلٹی اور حفاظتی خصوصیات، ایک فرنٹ آف ہاؤس جگہ اور جدید ترین تکنیکی آلات کا حامل ہے۔

میئر پیٹرک براؤن اور کونسلرز صبح 10 بجے ڈورز اوپن کے لیے LBP کا رین کائنات کی تقریب میں شرکت کے لیے رہائشیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رہائشیوں کے پاس آرکیٹیکٹس، لیبل اینڈ بٹولین سے ملنے، براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہونے، کسی سیر میں شامل ہونے اور تجدید شدہ سہولت گاہ کو ملاحظہ کرنے کا موقع ہو گا۔

LBP میں تبدیلیوں کے متعلق brampton.ca/lbp پر مزید جانیں۔

اونٹاریو ہیریٹیج ٹرسٹ ہر سال اوپن ڈور کے لیے اپنے منفرد ثقافتی مقامات کے در و دروازے اور صحن کھولنے کے لیے پورے اونٹاریو میں کمیونٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔

مزید معلومات کے لیے doorsopenontario.on.ca ملاحظہ کریں۔

برامپٹن کے ڈورز اوپن کا انعقاد کلچر ڈیز کے ویکینڈ پر 27 سے 29 ستمبر تک کیا جائے گا، جو اس دوران شہر بھر میں ہونے والی دلچسپ ثقافتی تقریبات کے سلسلے کا حصہ ہو گا۔ کلچر ڈیز فنون اور ثقافت کا ایک قومی جشن ہوتا ہے، جس میں رہائشی اور سیاح پورے برامپٹن میں مفت اور خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس سال شرکت کرنے والی تنظیموں میں پبل آرٹ گیلری میوزیم اینڈ آرکائوز ((PAMA، دی فیسٹیول آف لٹری ڈائورسٹی (FOLD) اور برامپٹن لائبریری شامل ہیں۔

برامپٹن میں کلچر ڈیز کی سرگرمیوں کی فہرست کے لیے culturedays.ca ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک رنگ برنگی کمیونٹی ہے اور ہماری سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہماری ثقافت ہے۔ ہم ایک لاجواب متنوع کمیونٹی ہیں، جس کے ہر دروازے کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ میں تمام لوگوں کی ڈورز اوپن 2019 کے موقع پر برامپٹن کی ثقافت اور تنوع کو دیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"ڈورز اوپن رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے برامپٹن کو اس کی تاریخ، ورثے اور ثقافتی جگہوں کے ذریعے جاننے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہم اس منفرد تقریب کا حصہ ہونے پر بہت پرجوش ہیں اور عوام کو برامپٹن کی کچھ نہایت محسورکن سہولت گاہوں کے بارے میں جاننے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔"

- ریجنل کونسلر گرپریت ڈھلون، چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca